



Department  
of Health &  
Social Care




Office for  
National Statistics

تحقیق کے لیے رابطہ (انگلستان): 0800 085 6807  
تحقیق کے لیے رابطہ (ویلز): 0800 917 9323  
تحقیق کے لیے رابطہ (شمالی آئرلینڈ): 0800 917 5825  
تحقیق کے لیے رابطہ (اسکاٹ لینڈ): 0800 917 5824

## کوویڈ-19 انفیکشن سروے

کوویڈ-19 انفیکشنز کے ملکی سطح کے سب سے بڑے سروے میں حصہ لیں۔  
آپ کی معاونت اس عالمی وباء کا حل تلاش کرنے اور معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے  
میں مدد کرے گی۔



### یہ سروے کس بارے میں ہے؟

- سروے کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ کتنے لوگوں کو کوویڈ-19 ہے، علامات کے ساتھ یا علامات کے بغیر۔
- یہ خصوصی طور پر اہم ہو جاتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوویڈ-19 کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگنے لگتے ہیں اور ہم نگرانی کرنے لگ جاتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں حفاظتی ٹیکے کتنا اچھا کام کرتے ہیں۔
- اپریل 2020 سے آفس فار نیشنل سٹیٹسٹکس اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ یوکے کی حکومت کی جانب سے سروے کر رہے ہیں۔



Scottish Government  
Riaghaltas na h-Alba  
gov.scot



Health and  
Social Care



Llywodraeth Cymru  
Welsh Government



تحقیق کا خلاصہ | کوویڈ-19 انفیکشن سروے | ورژن 9.0 تاریخ: 22 جولائی 2021 | ایتھکس ریفرنس: 20/SC/0195 | آئی آر اے ایس پروجیکٹ ائی ڈی: 283248  
چیف محقق: پروفیسر این سارہ واکر

## مجھے حصہ کیوں لینا چاہیے؟

- کورونا وائرس کے خلاف جاری جنگ میں ہمیں آپ جیسے گھرانوں کی ضرورت ہے کہ وہ اُن ہزاروں گھرانوں میں شامل ہو جائیں جو کہ پہلے ہی کوویڈ-19 انفیکشن کے سروے میں حصہ لے رہے ہیں۔
- سروے میں آپ کی شرکت سے ہمیں آپ کے علاقے میں کوویڈ-19 انفیکشنز کا ایک خاکہ تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ لوکل توڑ مناسب اور موثر ہو۔
- ہم صرف اُن لوگوں کو ٹیسٹ نہیں کر رہے جن میں وائرس ہونے کی علامات، جیسے بخار یا کھانسی، ہوں کیونکہ ہمیں علم ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو علامات کے بغیر بھی وائرس ہو سکتا ہے۔
- تحقیق میں شامل ہونا مکمل طور پر آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی طرف سے دی گئی تمام تر معلومات کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور اسے صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔
- اس سروے میں شرکت کرنے والا ہر فرد جب کوویڈ-19 کے حفاظتی ٹیکے لگوانے کا اہل ہو تو وہ یہ لگوا سکتا ہے - اور جن لوگوں کو کوویڈ-19 کے حفاظتی ٹیکے لگ چکے ہیں وہ بھی سروے میں شامل ہو سکتے ہیں۔

## سروے میں کیا ہوتا ہے؟

- سروے ٹیم کا ایک رکن 2 سال سے زیادہ عمر کے ہر اُس فرد کے بارے میں چند سوال پوچھے گا جو حصہ لینے کے متمنی ہوں۔
- وہ 12 سالہ یا زیادہ عمر کے افراد کو دکھائیں گے کہ حلق اور ناک سے روئی کے چھوٹے گولوں (سوابز) کی مدد سے خود نمونے کیسے لیے جاتے ہیں۔ ہم والدین یا کیئررز کو کہیں گے کہ وہ 11-2 سالہ بچوں کے سواب خود لیں۔ سواب ایک نرم اسفنج ہوتا ہے جو کہ ایک ڈنڈی پر لگا ہوا ہوتا ہے۔
- سروے ٹیم کا رکن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو گا اور وہ مناسب پی پی ای اپنے ساتھ لائیں گے اور سماجی دوری برقرار رکھے گا۔

### آپ راضی ہو سکتے ہیں:

- ا) صرف ایک وزٹ کے لیے
- ب) پہلی وزٹ اور ایک ماہ کے لیے ہر ہفتے میں ایک بار وزٹ کے لیے (کل 5 وزٹ)
- ج) پہلی وزٹ اور ایک ماہ کے لیے ہر ہفتے میں ایک بار وزٹ کے لیے اور پھر ماہانہ وزٹس کے لیے جب تک کہ سروے مکمل نہیں ہو جاتا (کم از کم کل 6 وزٹ)۔ فی الحال سروے اپریل 2022 تک جاری رہے گا۔ اگر اس میں تبدیلی آئے گی تو ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔

ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ سواب کیسے لینا ہے، دیکھیں [www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides](http://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides)

## میں حصہ کیسے لوں؟

حصہ لینے کے لیے آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا ہو گا:



رجسٹریشن ٹیم کو 0800 085 6807 (انگلستان)، 0800 917 9323 (ویلز)، 0800 917 5825 (شمالی آئرلینڈ)، 0800 917 5824 (اسکاٹ لینڈ) پر کال کریں۔  
اگر آپ فون استعمال نہ کر پائیں، مثال کے طور پر سُننے یا بولنے کی معذوری کی وجہ سے، تو آپ iqvia.covid19survey@nhs.net پر ای میل کر سکتے ہیں

1



ایک بار جب آپ رجسٹر ہو جائیں تو اگلی بار ہم آپ سے اُس وقت رابطہ کریں گے جب سروے ٹیم کا ایک رکن **مجوزہ وزٹ سے ایک دن** قبل آپ سے رابطہ کرے گا۔  
اگر یہ وقت آپ کے لیے موافق نہ ہو تو آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے رجسٹر ہونے کے بعد اگلے ہفتے کے دوران آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔

2



اپوائنٹمنٹ کے دن پر **سروے ٹیم کا ایک رکن وزٹ مکمل کرنے کے لیے آپ کے گھر آئے گا۔**  
سروے ٹیم کے رکن کو آپ کے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

3

## حصہ لینے کے لیے مجھے کیا ملے گا؟

- سروے میں حصہ لینے والے ہر فرد کو مکمل کی جانے والی پہلی بوم وزٹ کے لیے £50 کا واؤچر ملے گا۔
- بعد میں مکمل کی جانے والی ہر وزٹ کے لیے انہیں £25 کا واؤچر ملے گا۔

**i** واؤچرز صرف ان وزٹس کے لیے ملیں گے جو مکمل کی جائیں۔ اگر سروے رک جائے گا یا آپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں تو ان وزٹس کے لیے کوئی واؤچرز نہیں ملیں گے جو نہیں ہوتیں۔

## میرے ڈیٹا کا کیا ہو گا؟

- آپ کی طرف سے دی گئی تمام تر معلومات کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور اسے صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔
- یہ تمام نمونے آفس آف نیشنل سٹیٹسٹکس اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی جانب سے اکٹھے کیے جائیں گے۔
- ان تمام نمونوں کی ٹیسٹنگ یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور نیشنل لائٹ ہاؤس لیبارٹریز کریں گی۔
- آپ کی طرف سے مکمل کردہ تمام ڈیٹا کے نتائج آپ کو بتائے جائیں گے۔
- یہ سروے کرنے والی کمپنیاں آپ کی معلومات صرف ایس سروے کے لیے ہی استعمال کریں گی - براہ مہربانی مزید تفصیل کے لیے پارٹیسپینٹ انفارمیشن شیٹ یعنی حصہ لینے والوں کے لیے معلوماتی مقارچہ ملاحظہ کریں کہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کیا ہو گا۔
- نتائج پہلے ہی سے شیئر کیے جارہے ہیں تاکہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ ہم کیا دریافت کر رہے ہیں ([www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/results](http://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/results)) ان معلومات میں آپ یا آپ کے خاندان کا نام کہیں پر نہیں لیا جائے گا۔

## مزید معلومات اور مفید ویب سائٹس:

ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے کہ سواب کیسے لینا ہے، دیکھیں [www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides](http://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid-19-infection-survey/video-guides)

اس خلاصے کے چند ترجمے اور سروے کے بارے میں دیگر معلومات [www.ons.gov.uk/cis/languages](http://www.ons.gov.uk/cis/languages) پر دستیاب ہیں

مزید معلومات کے لیے حصہ لینے والوں کے لیے مفصل معلوماتی مقارچہ ملاحظہ کریں جو کہ اس لیف لیٹ کے ساتھ آیا تھا، یا [www.ons.gov.uk/cis](http://www.ons.gov.uk/cis) پر جائیں

**اگر آپ لیف لیٹ میں بیان کردہ کسی طرح کے مسائل سے بھی متاثر ہوتے ہوں یا آپ کوویڈ-19 کے بارے میں معلومات کے متلاشی ہوں تو براہ مہربانی وزٹ کریں:**

- کورونا وائرس کی وضاحت: [coronavirusexplained.ukri.org/en/](http://coronavirusexplained.ukri.org/en/)
- حکومتی گائڈ لائنز: [www.gov.uk/coronavirus](http://www.gov.uk/coronavirus) (انگلستان)، [www.gov.wales/coronavirus](http://www.gov.wales/coronavirus) (ویلز)، [www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19](http://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19) (شمالی آئرلینڈ)، [www.gov.scot/collections/coronavirus-covid-19-guidance/](http://www.gov.scot/collections/coronavirus-covid-19-guidance/) (اسکاٹ لینڈ)
- این ایچ ایس ایس ایڈوائس یعنی مشورہ: [www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/](http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/) (انگلستان)، [www.gov.wales/coronavirus](http://www.gov.wales/coronavirus) (ویلز)، [www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice](http://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice) (شمالی آئرلینڈ)، [www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19](http://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19) (اسکاٹ لینڈ)
- Samaritans - ہر ایک کے لیے جذباتی سپورٹ: [www.samaritans.org](http://www.samaritans.org)
- Mind - ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار کسی بھی فرد کے لیے مشورہ اور سپورٹ [www.mind.org.uk](http://www.mind.org.uk)